

## برکات اولیاء اللہ

( عزیز مکرم فاضل جلیل حضرت مولانا شاہ فیصل قادری زید جہد کے ذریعہ مظہر اسلام اکیڈمی ساڈھہ افریقہ کے قیام اور ایک سہ ماہی رسالہ کے اجراء کی خوشخبری ملی، اس عظیم کام پر عزیز موصوف اور ان کے رفیق کار حضرت مولانا زید اشرفی رضوی بیشمار مبارکباد کے مستحق ہیں۔

ساتھ ہی عزیز موصوف سہ ماہی رسالہ کے برکات اولیاء اللہ پر کچھ لکھنے کی فرمائش کی۔ تعمیل میں یہ چند سطور مرقوم ہیں)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العلمین - والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین - وعلی آلہ واصحابہ اجمعین -  
اما بعد،

فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم \*

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین \* سورہ توبہ آیت 119

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ (مکہ الایمان)

اولیئہ کرام کا بڑا اوقا مقاصد، ان کی برکتیں بیشمار ہیں،

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ "المنفذ من الضلال" میں یہ حدیث نقل فرماتے ہی

بہم یمضرون و بہم یرزقون \*

انہیں اولیاء اللہ کے طفیل بارش ہوتی ہے اور انہیں کے طفیل رزق دیا جاتلہ۔ گویا بارش و رزق اولیائے کرام کی برکات کا ایک شرمہ۔

یاد رہے کہ حق کے توالوں کا ایک گروہ ہر زمانہ میں موجود رہے، بلکہ زمانہ کبھی ان کے وجود سے خالی ہی نہیں رہا، انہیں کی برکتوں سے رحمتوں کا نزول ہوتلہ۔ انہیں اولیئہ کرام میں سے اصحاب کمف بھی ہیں۔

تمام سلاسل اولیاء برحق میں سلسلہ عالیہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نقشبندیہ، جدیدیہ، چشتیہ، نظامیہ، سہروردیہ، شاذلیہ وغیرہ ان سلاسل اولیاء کی برکات سے پوری دنیا فیضیاب ہے۔ ان کے درمیان جو اوراد و اشغال میں اختلاف ہے وہ فرود ہے، سب کا اصل سرچشمہ ایک ہے۔ تمام سلاسل حقہ ذات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے ملت ہیں۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی چوہدری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا فروم اشرف جہاں گیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مجددین و ملت، سیدی اعلیٰ حضرت

امام احمد رضا قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہم اولیاء اللہ کے فیضان و برکات سے ایک عالم روشن و منور، آج دینا میں اہل سنت کے عقیدے میں جوڑنگھی اور تصدب فی الدین پایا جاتلب وہ انھیں اولیئہ کرام اور امام اہل سنت کے فیضان و برکات کا ایک حصہ۔

مدارس اہل سنت کی برکتیں بھی، اولیاء اللہ کے طفیل ہیں، ان کے بانیان و کارکنان زیادہ تر صاحب سلسلہ ہیں، جن کے فیضان سے عالم اسلام مالامال ہے، ان مدارس کی برکات ایشیا، افریقہ، امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا وغیرہ ہر چار طرف پھیلی ہوئی ہیں۔

اس وقت اہل سنت و جماعت کے حریف بد مذہب ہیں۔ ان کے مقابلہ میں، تمام سلاسل اولیئہ کرام و تبعین کو آپسی فروعی اختلافات نظر انداز کر کے، بد مذہبیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو متفق ہو کر روکنا چاہئے۔

اولیائے کرام کی تعلیمات کی برکات کو عام کرنا، ان کے افکار و نظریات، اذکار و اشغال کو پھیلانا تمام سلاسل کے مریدین و متوسلین اور جملہ اہل سنت کا اہم فریضہ۔

اس دور پر فتنن میں صحیح اہل سنت کو اولیاء اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لینا چاہئے اور ان کی تعلیمات و برکات کا جو حصہ طلبہ اس کی نشر و اشاعت مل جل کر خوب خوب کرنا چاہئے۔

واللہ الموفق والمعين نعم المولى و نعم النصير

احمد القادری مصباحی

اسلامک اکیڈمی آف امریکہ

شوال 1440ھ جون 2019ء